

General Science 6th Class Urdu Medium Chapter 3 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	ایک شخص کی متوازن غذا کا انصار بے	A. عمر B. کام C. صحت D. یہ تمام
2	جس کی کمی سے بیری بیر ہوتی ہے	A. وثامن اے B. وثامن بی C. وثامن سی D. وثامن ڈی
3	کھانے جانے والے اٹلزوم ٹپریجر پر بوتے ہیں	A. ٹھوس B. ملنے C. گیس D. کوئی نہیں
4	ابراز اور ایٹھی بالائیز ہیں	A. کاربوبالینڈریٹ B. پروٹین C. لپٹا D. خون
5	بضم ہونے پر پروٹین جس میں تبدیل ہوتی ہے	A. کاربن B. پلیٹروجن C. ملتوپاہنہ D. اکسیجن
6	چینی سے	A. لپٹا B. پروٹین C. کاربوبالینڈریٹ D. وثامن
7	مچھلی حصے سے	A. پھللوں کے گروہ کا B. اناج کے گروہ کا C. گوشت کے گروہ کا D. دودھ کے گروہ کا
8	نیوٹریٹس جو بہت کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں	A. کاربوبالینڈریٹ B. پروٹین C. وثامن D. لپٹر
9	جسم کی شفونما اور پپر جس کا فعل ہے	A. لپٹر B. پروٹین C. فلبرز D. کاربوبالینڈریٹ
10	نیوٹریٹس جو انرجی کا فوری زرعی ہے	A. کاربوبالینڈریٹ B. وثامن C. لپٹر D. پروٹین